



## سوال

(734) رات کا آخری ثلث کس وقت ہے؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں گھڑی کے ٹائم کے مطابق رات کے آخری ثلث کا وقت معلوم کرنا چاہتا ہوں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

معین وقت کے ساتھ اس کا اندازہ کرنا ممکن نہیں، تاہم ہر شخص اس کا بلوں اندازہ کر سکتا ہے کہ پوری رات کو غروب آفتاب سے طلوع فجر تک تین حصوں میں تقسیم کرے، جب دو حصے گزر جائیں تو آخری حصہ رات کا آخری ثلث شمار ہوگا۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ينزل رنًا كُنَّ يَنْبِئُ السَّابِءِ اَوْنِيَا، مَن يَتَّقِ عَثْفَ اللَّيْلِ اَلْحَوْر، فَيَقُول: مَن يَدْعُوْنِي فَاَسْتَجِبْ لَهٗ؟ مَن يَزَانِعُنِي فَاَعْلِيَهٗ؟ مَن يَسْتَعْفِرُنِي فَاَغْفِرْ لَهٗ؟

(صحیح البخاری، التَّجَدُّد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، ح: 1145 و صحیح مسلم، الصلاة، باب الترغيب والدعاء والذكر في آخر الليل، ح: 758)

”اللہ تعالیٰ ہر رات کو (جب رات کا آخری ثلث باقی رہ جاتا ہے)، آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں: کون ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔“

چنانچہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اس وقت کو غنیمت جانے، اگرچہ رات کا کچھ ہی حصہ نصیب ہو شاید کہ وہ اس عظیم فضیلت کو پالے۔ شاید کہ مولانا عزوجل کی رحمت کا کوئی جھونکا اس کا مقدر بن جائے اور مولا کریم اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نواز دے۔

بم اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے توفیق کے طلب گار ہیں۔

حدا ما عذی واللہ اعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات  
الاسلامية  
محدث فتوى

## ج 4 ص 557

محدث فتوى